

شامی، افغانی، عراقی اور پناہ کی ضرورت رکھنے والے دیگر اعلیٰ تسلیم شدہ شرح رکھنے والے ممالک کے لوگ

• نام، قومیت، خاندانی رکن، زدپذیری کی اسکریننگ

پہلی
رجسٹریشن

- آپ کے اسانلم (سیاسی پناہ) کی رجسٹریشن۔
- دوسرے یورپی یونین (EU) ملک جانے کے مقصد سے ڈبلن خاندانی میلاپ کی درخواست دینے کے لیے، پہلے آپ کو یونان میں اپنی پناہ کی درخواست رجسٹر کروانی ہوگی۔
- ایک مختصر انٹرویو (تقریباً 30 منٹ)، لیکن اس مرحلہ میں کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا ہے۔

مکمل
رجسٹریشن

- 'قبولیت' کا مطلب آیا پناہ کے لیے آپ کی درخواست کی کاروائی یونان یا کسی اور ملک میں ہونا چاہیے۔
- اس میں یہ بات شامل ہے کہ آیا ترکی آپ کے لیے ایک محفوظ ملک ہے، آیا آپ خصوصی طور پر غیر محفوظ ہیں اور آیا کسی دوسرے یورپی یونین ملک میں آپ کے خاندان کے افراد رہتے ہیں۔
- یہ وہ مرحلہ ہے جس میں اکثر لوگ مسترد کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ آپ اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں اور اگر آپ نے اس سے قبل انٹرویو نہیں دیا تھا تو اس انٹرویو کے لیے تیاری کریں۔

انٹرویو کی
قبولیت

- اگر آپ قبولیت کے انٹرویو میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب، آپ کا ایک اہلیتی انٹرویو ہو گا۔
- اہلیتی انٹرویو آپ کے پناہ کے لیے دعویٰ سے متعلق ہے کہ آپ کو کس وجہ سے اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا اور آپ کو پناہ کی ضرورت کیوں ہے۔
- اگر آپ کو کسی دوسرے یورپی یونین (EU) ملک میں خاندانی میلاپ حاصل ہوتا ہے تو بعد میں وہاں پر پناہ کے لیے آپ کا اہلیتی انٹرویو لیا جائے گا۔

انٹرویو کی
اہلیت

- اگر آپ کو قبولیت یا اہلیتی مرحلہ میں مسترد کیا جائے تو آپ کو اپیل کرنی ہوگی۔
- پہلے اپیل کا مرحلہ انتظامی اپیلز کمیٹی کے پاس ہے۔
- آپ اس مرحلہ میں ایک وکیل بلا معاوضہ حاصل کر سکتے ہیں، جسے حکومت کے ذریعہ ادائیگی کی جاتی ہے۔
- اپنے معاملہ میں وکیل کے ساتھ تفصیلی گفتگو کرنا ضروری ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ آپ کے اس سے پہلے والے انٹرویو میں کوئی بھی متعلقہ حقائق چھوٹ گئے ہوں تو اس کو بیان میں شامل کیا گیا ہے۔

اپیلز - اپیل
کمیٹی

- اگر آپ کو اب بھی اپیلز کمیٹی کے ذریعہ مسترد کیا جائے تو عدالتی اپیلوں کے متعدد مزید ممکنہ مرحلے موجود ہیں۔ پہلی عدالتی اپیل کا مرحلہ انتظامی عدالت کے پاس ہے۔ قانونی امداد فراہم کرنے والی غیر سرکاری تنظیمیں بعض عدالتی اپیل کے معاملات کے لیے مالی معاونت کر رہی ہیں، لیکن صرف واضح معاملات میں۔
- عدالتی اپیلوں کے اگلے ممکنہ مرحلوں میں شامل ہیں: یونان کی سرکاری کاؤنسل (گریک کاؤنسل آف اسٹیٹ)، یورپی عدالت برائے انسانی حقوق۔ آپ کا وکیل آپ کو مشورہ دے گا کہ مزید اپیل کرنے کی کوشش فائدہ مند ہے یا نہیں۔

انتظامی - اپیل
عدالت

پاکستانی، مراقتشی اور پناه کی ضرورت رکھنے والے کے ساتھ ادنیٰ تسلیم شدہ شرح رکھنے والے دیگر ممالک کے لوگ

پہلی رجسٹریشن

- نام، قومیت، خاندانی اراکین
- غیر محفوظیت کی اسکریننگ

مکمل رجسٹریشن

- آپ کے اسانلم (سیاسی پناہ) کے دعویٰ کی رجسٹریشن۔
- دوسرے یورپی یونین (EU) ملک جانے کے مقصد سے ڈبلن خاندانی میلاپ کی درخواست دینے کے لیے، پہلے آپ کو یونان میں اپنی پناہ کی درخواست رجسٹر کروانی ہوگی۔
- ایک مختصر انٹرویو (تقریباً 30 منٹ)، لیکن کوئی فیصلہ اس مرحلہ میں نہیں لیا جاتا ہے۔

انٹرویو کی اہلیت

- اہلیت انٹرویو آپ کے پناہ کے لیے دعویٰ سے متعلق ہے کہ آپ کو کس وجہ سے اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا اور آپ کو پناہ کی ضرورت کیوں ہے۔
- اگر آپ کو کسی دوسرے یورپی یونین (EU) ملک میں خاندانی میلاپ حاصل ہوتا ہے تو بعد میں وہاں پر پناہ کے لیے آپ کا اہلیت انٹرویو لیا جائے گا۔

اپیلز - اپیل کمیٹی

- اگر آپ مسترد ہوئے، تب آپ کو اپیل کرنا چاہئے۔
- پہلے اپیل کا مرحلہ انتظامی اپیلز کمیٹی کے پاس ہے۔
- آپ اس مرحلہ میں بلا معاوضہ ایک وکیل حاصل کر سکتے ہیں، جسے حکومت کے ذریعہ ادائیگی کی جاتی ہے۔
- اپنے معاملہ میں وکیل کے ساتھ تفصیلی گفتگو کرنا ضروری ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ آپ کے اس سے پہلے والے انٹرویو میں کوئی بھی متعلقہ حقائق چھوٹ گئے ہوں تو اس کو بیان میں شامل کیا گیا ہے۔

انتظامی - اپیل عدالت

اگر آپ کو اب بھی اپیلز کمیٹی کے ذریعہ مسترد کیا جائے تو عدالتی اپیلوں کے متعدد مزید ممکنہ مرحلے موجود ہیں۔ پہلی عدالتی اپیل کا مرحلہ انتظامی عدالت کے پاس ہے۔ قانونی امداد فراہم کرنے والی غیر سرکاری تنظیمیں بعض عدالتی اپیل کے معاملات کے لیے مالی معاونت کر رہی ہیں، لیکن صرف واضح معاملات میں۔ عدالتی اپیلوں کے اگلے ممکنہ مرحلوں میں شامل ہی (گریک کاؤنسل آف اسٹیٹ)، یونان کی سرکاری کاؤنسل، یورروبین عدالت برائے انسانی حقوق۔ آپ کا وکیل آپ کو مشورہ دے گا کہ مزید اپیل کرنے کی کوشش فائدہ مند ہے یا نہیں۔